

پیپر منٹ سیرپ

(تبخیر امراضِ معدہ اور نظامِ ہضم کے امراض کیلئے موءِ ثردوا)

خواص: پیپر منٹ سیرپ ساہا سال سے امراضِ نظامِ ہضم کیلئے بڑی کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا جزو موءِ ثرہ پودینہ ہے جو متلی، قے، تبخیر، گیس، بد ہضمی، ہیضہ، پیٹ درد، تیزابیت اور بھوک نہ لگنے کیلئے انتہائی موءِ ثرہ ہے۔ لاثانی کے شعبہ تحقیق کے ماہرین نے پودینہ اور اس کے ست پر مزید تحقیق کے بعد لاثانی پیپر منٹ کا نسخہ ترتیب دیا ہے جو نظامِ ہضم کے جملہ امراض کیلئے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اسے حفظانِ صحت کے اصولوں کے عین مطابق تیار اور پیک کر کے مارکیٹ میں پیش کیا جا رہا ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے: دو چمچ شربت دن میں تین بار، بچوں کیلئے: ایک چمچ شربت دن میں تین بار